

د دنیا او آخرت د بہترئ او د ہر قسمہ شر نہ
د حفاظت د پارہ
داد عیہ ماثور و یوہ بہترینہ مجموعہ

منتخب

پسنیتو

مسنون

دعا گانے

انتخاب
مولانا مفتی محمد ایاز حبیب
رئیسہ اجماعہ تبلیغ القرآن یوسفہ آباد پشاور

یوسف ایاز دلزاک روڈ پشاور پاکستان
فون: 0092-91-2245300

ناشر جامعہ تبلیغ القرآن (رجسٹرڈ)



د دنیا او آخرت د بہتری او د ہر قسمہ شر نہ د حفاظت د پارہ
د ادعیہ ماثور و یوہ بہترینہ مجموعہ

منتخب

مسنون دعا گانے

تالیف

مولانا مفتی محمد ایاز صاحب

رئیس اجماعہ تبلیغ القرآن یوسف آباد پشاور



ناشر

جامعہ تبلیغ القرآن (رجسٹرڈ)

یوسف آباد دلہ زاک روڈ پشاور پاکستان

فون: 0092-91-2245300



تاکہ

- 1- سریزہ (ابتدائی کلمات) ----- 1
- 2- ہدایات ----- 1
- 3- جامع دعا ----- 2
- 4- د فرض مانجھ نہ روستو لوستونکے دعا ----- 2
- 5- د اللہ تعالیٰ محبت حاصلو لو د پارہ دعا ----- 3
- 6- د اللہ تعالیٰ دیاد او شکر او د عبادت د توفیق ملاوید لو د پارہ دعا ----- 3
- 7- د ہدایت، پرہیز گاری او پاکدامنی حاصلو لو د پارہ دعا ----- 4
- 8- د دنیا او آخرت د نور حاصلو لو د پارہ دعا ----- 4
- 9- دنیا اور آخرت کین عافیت د پارہ او د بال بیج د حفاظت د پارہ پورہ دعا ----- 5
- 10- پہ دین باندے مضبوط پاتے کیدلو د پارہ دعا ----- 6
- 11- د شپے دا وڈہ کیدو پہ وخت کین دعا ----- 6
- 12- پورہ مکمل دعا ----- 7
- 13- د قرض دا دائیگئی او د حلال رزق د حصول د پارہ دعا ----- 7

ضروری خبردارے

کوم حضرات چہ د خپلو مصروفیاتو پہ وجہ پورہ کتاب پہ روزانہ
بنیاد نہ شی لوستلے نو ہفہ دے د صفحہ نمبر ۴۹ نہ تر صفحہ نمبر ۳۵
پورے د ذکر کرے شوؤ دعاگانو سحر او ماہنامہ اہتمام او کری۔

- 14- پہ آخر عمر کنبس د رزق د فراخئی د پارہ دعا ----- 8
- 15- د بال بچ او دولت زیاتیدو او د برکت د پارہ دعا ----- 8
- 16- د دین او دنیا د خیر خواہئی د پارہ دعا ----- 8
- 17- د گناہونو د بخشش او د علم د ترقی د پارہ دعا ----- 9
- 18- د اللہ تعالیٰ د رحمت د پارہ او د گناہونو نہ د حفاظت د پارہ دعا ----- 10
- 19- د فائدہ مند علم، د حلال رزق، او د عمل د قبلیدو د پارہ دعا ----- 10
- 20- د ٲولو کارونو د صحیح جوړ خوړلو د پارہ دعا ----- 10
- 21- سید الا ستغفار (یعنی بہترین الفاظ سرہ بخشش طلب کول) ----- 11
- 22- د خیر د حصول او د شر نہ د حفاظت د پارہ دعا ----- 11
- 23- د بدن او د اندامونو د حفاظت د پارہ دعا ----- 12
- 24- اوچتے مرتبے حاصلولو د پارہ دعا ----- 12
- 25- د گناہونو د بخشش د پارہ دعا ----- 13
- 26- د اللہ پہ فیصلو باندے قناعت او راضی کیدو د پارہ دعا ----- 13
- 27- د ایمان او عافیت د حصول د پارہ دعا ----- 13
- 28- د خپل ایمان د حفاظت د پارہ دعا ----- 14
- 29- پہ نعمتونو باندے د شکر یہ توفیق ملاویدو د پارہ دعا ----- 14
- 30- پہ تکلیفونو باندے صبر کولو د پارہ او شکر یہ ادا کولو د پارہ دعا ----- 15
- 31- پہ زندگی کنبس او پہ وختونو کنبس د برکت د راتلو د پارہ دعا ----- 15
- 32- د ظاہر او باطن د اصلاح د پارہ دعا ----- 15
- 33- نیک عملونہ او نہ اخلاق اختیارولو د پارہ دعا ----- 15
- 34- د اللہ تعالیٰ نہ د یریدلو او د گناہونو او نافرمانونہ د بچ کیدو د پارہ دعا ----- 16

- 35- مشقتونہ، بد بختی او بد انجام نہ د بیچ کیدو لو دپارہ دعا ----- 17
- 36- نیک عملہ اهل و عیال د پارہ دعا ----- 17
- 37- د زهد و قناعت او برکت د پارہ دعا ----- 17
- 38- د اندامونو د حفاظت د پارہ دعا ----- 17
- 39- د مشکلاتو د حل د پارہ دعا ----- 18
- 40- د بنہ انجام د پارہ دعا ----- 18
- 41- د معافی د غوختلو د پارہ دعا ----- 18
- 42- د نیک کارونو د توفیق ملاویدو دپارہ دعا ----- 18
- 43- د گناہونو د بخشش او مغفرت د پارہ دعا ----- 19
- 44- د گناہونو د بخشش او ثابت قدمہ پاتے کیدو دپارہ دعا ----- 19
- 45- د هر قسم گناہونو د بخشش د پارہ دعا ----- 20
- 46- د گناہونو د بخشش د پارہ اوپہ کور اوپہ رزق کنب برکت راتلو د پارہ دعا ----- 20
- 47- د قبر د عذاب نہ او د فتنونہ د حفاظت د پارہ دعا ----- 22
- 48- د نعمتونو او د عافیتونو د ختمیدونہ د حفاظت د پارہ دعا ----- 22
- 49- د گاونہی او د رشتہ دارانو د شر نہ د بیچ کیدو د پارہ دعا ----- 23
- 50- د منافقت (دوہ مخیزہ کیدل) او د بد اخلاقونہ د حفاظت دپارہ دعا ----- 23
- 51- د قرضونو او د دشمنانو د غالب کیدونہ د بچاؤ د پارہ دعا ----- 24
- 52- مختلف قسم بد اخلاق او خطرناکو بیمارونہ د بچاؤ د پارہ دعا ----- 24
- 53- د اللہ تعالیٰ د غصے او د مخلوق د شر نہ بیچ کیدو د پارہ دعا ----- 25
- 54- د کور نہ د وتلوپہ وخت کنب دعا ----- 26
- 55- د بد حالت رانچیدونہ د بچاؤ دعا ----- 26

- 56- د تہجد و پہ وخت کبھی یو بہترینہ دعا-----27
- 57- د سحر او مانہام پہ وختونو کبھی دعا-----27
- 58- د ہر قسمہ جادو، کودو منتر ونہ نہ د حفاظت دعا-----27
- 59- د دشمن نہ د زیاتے یرے پہ وخت کبھی دعا-----29
- 60- جامع دعا د سیدنا انس رضی اللہ عنہ -----30
- 61- د دشمن او ظالم حکمران نہ د بچاؤ د پارہ دعا-----31
- 62- د ہر قسمہ حادثاتو نہ د بچ کیدو د پارہ د حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دعا-----32
- 63- د دشمن او ظالم حکمران نہ د بچاؤ د پارہ دعا-----35
- 65- د استخارے دعا-----35
- 66- مختصر استخارہ کول -----36



(سریزہ)

دعا سدرے حرفونو باندے مشتمل دے لفظ پہ خپلہ خبیثہ کسں ڀیر خرہ راگیر کری دی۔ کہ ددنیا مسائل وی یا د آخرت د تکلیفونو نہ د خپل خان بیج کول وی ددے تولو خبر و د حل د بارہ ہم دا درے حرفیزے لفظ (دعا) د امید یو برق ثابتیری او ہم دا یوہ آسره د انسان ذہن تہ راخی او یے اختیارہ د انسان لاسونہ د خالق کائنات پہ بارگاہ کسں پور تہ کیری او کہ ددے خوارو شوو لاسونو سرہ لایا د او شکو یو خو قطرے ہم شامل شی نو د انسان پنخہ وارہ گوتے پہ غور و کسں پریوخی او د دعا فائدہ نورہ ہم حتی یقینی کیری۔

پہ دنیا کسں ہر انسان د خپلو حاجتونو د پورہ کولو د بارہ ہم دعا خپلہ آخری ذریعہ او وسیلہ جوہہ کرے دہ تہ دے چہ د اللہ تعالیٰ بخوریزو پیغمبر انو علیہم السلام ہم د دعا پہ ذریعہ خپل مسائل حل کیری دی، کومہ یوہ مسئلہ چہ ہم د ہفتی محض تہ راغلیہ دہ نو ہم دعائے اللہ تعالیٰ نہ وسیلہ کرے دہ او دفعہ نہ پہ مدد او نصرت غو خنلو سرہ ئے خپلہ مسئلہ حل کرے دہ د قوم د بارہ ہدایت غوختل وی یا د بد عملہ خلقو نہ نجات حاصل وی، یا د نیک عملہ اولاد آرزو او تمنا کول وی، یا خپل عبادت او بندگی نہ د قبولیت سندد رو کول وی، یا د تولو نہ لوے خبرہ دا چہ د پورہ بنی نوع انسانیت د بارہ د پور مشر او رہنماء طلب کول وی، پہ دے تولو موقعو باندے کہ مونہر او گورو نو د پیغمبر انو علیہم السلام لاسونہ

خالق کائنات تہ اوچت پہ نظر راخی، پہ خپلہ د اللہ تعالیٰ فرمان دے چہ: **”وَيَدْعُونََنَا رَعِبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔“**

او ددے پشان نورو ڀيرو آيتونو کسں ہم دا مناظر بیان کرے شوی دی ہم د دعا پہ بارہ کسں د اللہ تعالیٰ حکم دے چہ، ادعوتی استجب لکم، ہم زمانہ غوختل کوئی، زہ بہ ستاسو دعا گانے قبولو، پہ دنیا کسں د مخلوق خدا عمومی حال دا دے چہ پہ سوال کولو او غوختلو خفہ کیری لیکن اللہ تعالیٰ پہ غوختلو خوشالیری او پہ نہ غوختلو خفہ کیری او ناراضہ کیری لہذا پہ مختلفو وختونو او موقعو باندے چہ کومے دعا گانے غوختل او لوستل پکار دی اوس ہفہ لیکلے کیری کہ ددے دعا گانو پہ روزانہ بنیاد باندے پابندی او کرے شی نو د دنیا او آخرت ڀیرے فائدے او نفعیہ بہ تر لاسہ شی، انشاء اللہ

ہدایات

- (1) پہ دے کتابچہ کسبے د ذکر شوی دعا گانو او ذکرونو پہ اول او آخر کسبے د درود شریف د لوستلو پابندی دے او کرے شی۔
- (2) د شپے یا دورخے د خپل سہولت مطابق یو خاص مقرر وخت کسبے د دے د لوستلو پابندی دے او کرے شی۔
- (3) معنی او مفہوم تہ توجہ کولو سرہ پہ شوق سرہ د ذکر شوو، ذکرونو او دعا گانو ورد دے او کرے شی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامع دعا گانے

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ترجمہ: اے زموں پر ربہ! تہ مونبر تہ د دنیا او د آخرت خيگري راکره او د دوزخ

د عذاب نہ مويج کره. (بقره: ۲۰۱)

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْنَاكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلْغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ

ترجمہ: اے اللہ! بے شکہ مونبر ستانہ د هغه خير سوال کوو د کوم چي تانہ ستا خور نبي

محمد عليه الصلوه والسلام سوال کرے دے او مونبر د بر هغه خيز نہ ستا پناه

غوارو چي ستا خور نبي محمد عليه الصلوه والسلام ترے پناه غوختلے ده هم تہ

مددگار ئے او هم تہ کافی ئے (يعني تہ د تولو د حاجت پوره کولو دپاره کافی يے)

د گنا نہ د بچ کيدو او د نيکي د کولو طاقت صرف هم د اللہ تعالیٰ په ورکرے

سره کيږي. (ترمذی)

فرض مانخه نہ پس د لوستلو دعا

اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَاَنْ

تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَقَوِّنِي اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي اِلَى حُبِّكَ

ترجمہ: اے اللہ! هہ تانہ د خہ کار د کولو، او دبدو کارونو د پر بخو دلو سوال کوم او داچي

تہ ما او بخي او ماباندے رحم او کرے او کلہ چي تہ د يوم قوم د ازمينست اراده

اوکڑے نو بغیر د ازمینبت نہ ما خپل طرف تہ راؤ بلہ ، اے اللہ! حہ تانہ ستا
محبت غوارم او دہغہ چا محبت درنہ غوارم چہ تا سرہ محبت کوی او دہر ہغہ
عمل محبت درنہ غوارم چہ ما ستا محبت تہ نزدے کری۔ (ترمذی، حاکم)

د اللہ د محبت د حصول د پارہ دعا

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا
رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا رَزَوْتْ عَنِّي
مِمَّا أَحَبُّ فَأَجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ۔

ترجمہ: یا اللہ ما تہ خپل محبت رانصیب کرے او د ہر ہغہ چا سرہ محبت رانصیب کرے
چہ د ہغہ محبت ستا پہ نزد ماتہ فائدہ راکری اے اللہ! خنگہ چہ تا ماتہ ہغہ
خیزونہ راکری دی چہ زما خویش دی نو ہم دغہ شان دغہ خیزونہ د ہغہ خیز
د قوت [ذریعہ] او گڑھے چہ ستا خویش دی او اے اللہ! خنگہ چہ تا حہ د ہغہ
خیزونو نہ لرے ساتلے یم چہ زما خویش دی نو ہم دغہ شان ما پہ ہغہ خیزونو
کنبے مصروف کرے چہ ستا خویش دی او ما د خپلے خویشے د خیزونو نہ بے
پرواہ کرے چہ د ہغے خیال ہم رانشی۔ (ترمذی، راوی)

ذکر ، شکر او د عبادت د توفیق د پارہ دعا

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ زما مدد او کرہ ستا پہ ذکر کولو کنبے اوستا پہ شکر ادا کولو کنبے او
پہ خہ طریقہ ستا عبادت کولو کنبے۔ (ابوداؤد، نسائی، احمد، حاکم۔)

د ہدایت ، تقویٰ او پاکدامنی دپارہ دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ۔

ترجمہ: اے اللہ! بے شک حہ ستا نہ ہدایت ، د گناہ نہ بجاؤ ، پاکدامنی او د مخلوق نہ

دبے نیاز کیدو سوال کوم۔ (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، احمد)

دنیا او آخرت کنبے د نور حاصلو لو دپارہ دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي

نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْ نُورًا وَمِنْ

خَلْفِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا.

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا وَفِي لَحْيِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا وَ

فِي شَعْرِي نُورًا وَفِي بَشْرِي نُورًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي وَنُورًا فِي

عِظَامِي وَأَعْظَمْ لِي نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ترجمہ: اے اللہ زما پہ زپہ کنبے نُور (رنپا) پید ا کپے او زما پہ ژبہ ، زما پہ غورونو

او زما پہ سترگو کنبے نور واچوہ او زما خی طرف او زما گس طرف رنپا کپے

او زما مخے تہ او زما شاتہ او زما پہ نفس کنبے نور پید ا کپے اے اللہ ماتہ نور

را کپہ زما پہ پلو کنبے نور واچوہ او زما پہ غوئبہ او وینہ او زما پہ و یختو او

خرمن کنبے نور واچوہ اے اللہ زما دپارہ پہ قبر کنبے نور پید ا کپہ زما پہ

ہدو کو کنبے نور پید ا کپے او د قیامت پہ ورخ زما د پارہ نور لوے (دیپ) کپے۔

(بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، احمد، ابن ابی شیبہ، ابن السنی)

پہ دنیا او آخرت کنبے دعافیت او د اهل و عیال د حفاظت د پارہ دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي
وَأْمِنْ رُوعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي
وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔

ترجمہ: اے اللہ۔ خہ ستا نہ پہ دنیا او آخرت کنبے دعافیت سوال کوم اے اللہ خہ ستا نہ
پہ خپل دین، دنیا، خاندان او پہ مال (معاملاتو) کنبے د معافی او د عافیت سوال
کوم۔ اے اللہ! پہ ماباندے پردہ و اچوے او زما یرہ پہ امن او اطمینان سرہ بدل
کرے اے اللہ زما د مخے نہ او زما د شانہ زما دخی او گس طرف نہ زما حفاظت
وکرے او اللہ خہ ستا پہ عظمت سرہ پناہ غوارم د دے خبرے نہ چہ د لاندے
طرف نہ پہ ماباندے خہ آفت راشی۔ (ابوداؤد)

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ،
مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ،
سَبَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،
أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي
وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُرْنِي وَذَهَابَ هَيْبِي۔

ترجمہ: اے اللہ بے شک خہ ستا بندہ یم ستا د بندہ او ستا د بندئی حوے یم زما تندے
ستا پہ لاس کنبے دے پہ ماباندے ہم ستا حکم چلی زما پہ بارہ کنبے ستا
فیصلے د انصاف دی خہ تانہ سوال کوم پہ ہر ہغہ نوم سرہ چہ ستا دے، کوم سرہ

چہ تا خپل حان موسوم کرے دے یا تا پہ خپل کتاب کنبے نازل کرے دے یا
دے پہ خپل مخلوق کنبے چاتہ خودلے دے یا دے حان سرہ پہ خپل علم غیب
کنبے ایخودلے دے (دا سوال کوم) چہ تہ قرآن زما د زہ بہار، زما دا سینے نور
او زما د غمونو او پریشانو دلرے کولو ذریعہ جوہرہ کرے۔ (احمد)

پہ دین باندے د ثابت قدمی دپارہ دعا

اللَّهُمَّ مَقْلَبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبُنَا عَلَى دِينِكَ۔ (نسائی، ترمذی، احمد، حاکم)

ترجمہ: اے اللہ اے دروونو اورو نکیہ تہ زمونہ زروونہ پہ خپل دین باندے کلک اوساتہ۔

اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ اے دزڑ ونو اروونکیہ تہ زمونہ زروونہ خپلے تابعداری طرف تہ

واروہ۔ (مسلم، نسائی)

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَثَبِّتْنِي وَسَدِّدْنِي۔

ترجمہ: اے اللہ امانتہ ہدایت او کرہ ما ثابت قدم او درست وساتہ۔ (حسن حصین)

د شپے د اودہ کیدو دعا

اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ

وَأَلْبَسْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَأَ مِنْكَ إِلَّا

إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ ما خپل حان تا تہ حوالہ کرو او خپل مخ (رخ) م ستا طرف تہ وارو او

خپل کارم تا تہ حوالہ کرو او شامی ستا پہ پناہ کنبے ورکرہ او ما تہ خپل پشت

پناہ جوہر کرے ستا درحمت درغبت دوجے او ستا دعدذاب دیرے دوجے او ستا
دگرفت نہ د بیچ کیدو ستا درحمت نہ سوا بلہ شہ ٹھکانہ او حائے د پناہ نشتہ تا
چہ کوم کتاب رالیرلے دے او نبی چہ دے رالیرلے دے پہ ہغے ما ایمان راورے
دے۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، راوی)

جامع دعا

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآئِرْنَا
وَلَا تُؤَيِّرْ عَلَيْنَا وَأَرْضَنَا وَارْضَ عَنَّا۔

ترجمہ: اے اللہ مونہر (پہ ہر خیز) کنبے زیات کرے او کموہ مومہ او مونہر تہ عزت
را کرے او دیے عزتی نہ مواوساتے او مونہر لہ غلبہ را کرے او مغلوب کوہ مومہ او مونہر
راضی کرے او زمونہر نہ راضی شہ۔ (ترمذی)

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي۔

ترجمہ: اے اللہ ما ژوندے اوساتے تر خو پورے چہ ژوند زما پہ حق کنبے خہ وی او
مالہ مرگ راولہ کلہ چہ مرگ زما پہ حق کنبے خہ وی۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، راوی)

د قرض د ادا کولو او حلال رزق دپارہ دعا

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

ترجمہ: اے اللہ تہ زما کفایت او کرے د خپل حلال پہ ذریعے د حرامو پہ مقابلہ کنبے
او پہ خپل فضل سرہ ما د خلقو نہ بے نیازہ کرہ۔ (ترمذی، احمد، حاکم)

پہ بڈھا والی کنبے درزق دفرائى دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِي

ترجمہ: اے اللہ پہ بڈھاوالی او آخر عمر کنبے زما رزق فراخہ کرے۔ (سلسلہ الاحادیث الصحیحہ)

د مال اولاد د پيروالی او برکت دپارہ دعا

اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالِي وَوَلَدِي وَبَارِكْ لِي فِيهَا اَعْطَيْتَنِي وَأَطِلْ حَيَاتِي عَلَيَّ

طَاعَتِكَ وَأَحْسِنْ عَمَلِي وَاعْفِرْ لِي۔ (سلسلہ الاحادیث الصحیحہ)

ترجمہ: اے اللہ زما مال او زما اولاد زیات کرہ او خہ مالہ راکرے پہ ہفے کنبے رالہ برکت واجوہ او ستاد اطاعت دپارہ زما عمر زیات کرہ او زما عمل خہ کرہ او ماتہ معافی او کرہ۔

د دین او دنیا د خیگرے دپارہ دعا

اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةً اَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ

الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَ

اَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا

مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادًّا لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

ترجمہ: اے اللہ زما دپارہ زما د دین اصلاح او کرے کوم چہ تازما د (دینی اور دنیوی)

کار د حفاظت ذریعہ جو پرہ کرے دہ او ما دپارہ زما دنیا سمہ کرے کومہ کنبی

چہ تازما معیشت مقرر کرے دے اے اللہ خہ ستا د قہر او غضب نہ پناہ

غوارم ستا پہ رضا سرہ او ستا د عذاب نہ پناہ غوارم ستا پہ معافی سرہ او خہ پہ

تاسرہ ستانہ (ستاد عذاب نہ) پناہ غوارم نشتہ منع کونکے دہغہ خہ چہ تہ ئے ورکڑے او
 نشتہ ورکونکے دہغہ خہ چہ تہ ئے منع کڑے او نشتہ ہیخ شوک واپس کوونکے ستا
 فیصلے لره او یو دولت مند تہ دہغہ دولت ستا پہ مقابلہ کبے ہیخ فائدہ نشی ورکولے۔
 (سائی، ابن خزیمہ، ابن السنی، طبرانی، ابن حبان)

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي
 فِيهَا مَعَايِشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً
 لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَأَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔ (مسلم)

ترجمہ: اے اللہ زما دینی حالت سم کڑے کوم چہ تازما د دنیا او آخرت د کارونو د حفاظت
 ذریعہ گر حولے دے او ما دپارہ زما دنیا سمہ کڑہ پہ چہ ہغے کبے زما معاش دے او زما
 دپارہ زما آخرت سم کڑے چہ ہغے تہ زما واپسی دہ او زما ژوند زما دپارہ پہ برکار کبے
 دخیر د اضافے ذریعہ و گر حے او مرگ زما دپارہ دہر شر نہ د راحت ذریعہ جوڑہ کڑے۔

د گناہونو د مغفرت او د علم د اضافے دپارہ دعا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ
 اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَنْزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

ترجمہ: اے اللہ ستانہ سوا ہیخ شوک د عبادت لائق نشتہ ستا ذات پاک دے اے اللہ خہ
 تانہ د خپلے گناہ معافی غوارم او اے اللہ تانہ ستا رحمت غوارم اے اللہ زما
 علم زیات کڑے او زما زہ د ہدایت کولو نہ پس مہ کڑوہ او مالہ د خپل طرف
 نہ رحمت راکڑہ او تہ ڈیر زیات ورکڑہ ورکونکے ذات ئے۔ (ابوداؤد)

د اللہ د رحمت حصول او د گناہ نہ د حفاظت دعا
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ
 مِنْ كُلِّ آثِمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: اے اللہ حُہ تانہ (دھغہ کارونو توفیق غوارم) چہ ستا رحمت واجبوي او ستا د مغفرت
 د امید او د برے گناہ نہ د بچ کیدو او ہر نیک کار کنبے د حصہ موندلو او د
 جنت کامیابی او د جہنم نہ د نجات طلب گاریم. (حاکم)

علم نافع، حلال رزق او د عمل د قبولیت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا.

ترجمہ: اے اللہ حُہ تانہ داسے علم غوارم چہ فائدہ مندوي او داسے عمل درنہ غوارم
 چہ تانہ قبول وی او داسے رزق غوارم چہ پاک وی. (ابن السنی ابن ماجہ)

د تپولو کارونو د درستگی د پارہ دعا

اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي
 كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

ترجمہ: اے اللہ حُہ ہم ستا د رحمت امید واریم ما د لبر وخت د پارہ ہم خپل نفس تہ مہ
 حوالہ کوہ او زما ٹول کارونہ درست کرہ حُکہ چہ ستانہ سوا بل خوک معبود
 (کار جو پروونکے) نشتنہ. (ابوداؤد)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتُلْمُ بِهَا شَعْيِي۔

ترجمہ: اے اللہ! تانہ غوارم ستا داسے رحمت چہ تہ پرے زما کارونہ حل کرے او زما د ژوند گہو ډ تیا او پردشانی پرے لرے کرے۔

سید الاستغفار

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ! تہ زما رب ئے ہم تا حہ پیدا کرے یم حہ ستا بندہ یم او حہ د خپل وس مناسب ستا پہ وعده او عہد پابند یم حہ پہ تاسرہ پناه غوارم د هغه حہ د شر نہ چہ ما کپی دی حہ پہ خپل حآن باندے ستا د نعمت اقرار کوم او حہ د خپلے گناه اقرار کوم نو ماته بخنہ او کرے بے شکہ دگنا ہونو معاف کوونکے ستا نہ سوا بل ہیخ خوک نشته۔ (بخاری)

د خیر طلب او د شر نہ د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ الْخَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ۔

ترجمہ: اے اللہ! تانہ ناگہانی (غیر متوقع) خیر غوارم او دناگہانی شر نہ ستا پناه غوارم۔

[کتاب الاذکار]

د بدن او د اندامونو د عافیت دعا

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَعْيِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ زما پہ بدن کنبے زما پہ غورونو او سترگو کنبے عافیت راکړے، ستانه سوا هيڅ څوک د عبادت لائق نشته اے اللہ څه ستا پناه غوارم د کفر او د فقر نه او په تاسره پناه غوارم د قبر د عذاب نه، ستانه سوا بل هيڅ څوک د عبادت لائق نشته. [البوداؤد و احمد]

داوچته مرتبه د پاره دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعْ وِزْرِي وَتُصَلِّحَ أَمْرِي وَتُطَهِّرَ قَلْبِي وَتُحْصِنَ فَرْجِي وَتُنَوِّرَ قَلْبِي وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ۔ آمِينَ۔

ترجمہ: اے اللہ څه تانه سوال کوم چه زما تذکره اوچته کړے او زما بوج لرے کړے او زما کار درست کړے او زما زړه پاک کړے او زما د شرمگاه حفاظت اوکړے او زما زړه روخانه کړے او زما گناه معاف کړے او څه تانه په جنت کنبے داوچتو درجو سوال کوم اللہ زما دعا قبوله کړے.

(حاکم، طبرانی فی الاوسط و فی الکبیر)

د گناہونو د مغفرت دعا

اللَّهُمَّ طَهِّرْني مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اللَّهُمَّ نَقِّني مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْني بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ۔

ترجمہ: اے اللہ ما د گناہونو او خطاگانونہ پاک کرے اللہ مادا سے پاک کرے لکہ
خنکے چہ سپینہ کپڑا د خیرو نہ پاکولے شی اے اللہ ما د واورے، د گلئی او د
یخو اوبوپہ ذریعہ پاک کرے۔ (نسائی و ترمذی)

د اللہ پہ فیصلے د رضا کیدو دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرَدِ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَدَّةَ النَّظَرِ
إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔

ترجمہ: اے اللہ حہ تانہ سوال کوم پہ تقدیر د رضا کیدو او د مرگ نہ پس د آرام والا
ژوند او ستا مخ تہ د کتلو دلذت او ستا سرہ د ملاقات د شوق (سوال کوم) چہ د
نقصان او شر او د گمراہ کوونکے فتنے نہ بغیر وی۔ (طبرانی الکبیر والاوسط، دیلمی)

د ایمان او د عافیت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا
نَافِعًا، وَأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ
عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ۔

ترجمہ: اے اللہ حہ تانہ د دائمی ایمان سوال کوم او تانہ د یریدونکی زرہ سوال کوم او
تا نہ علم نافع غوارم او تانہ ریشتنی یقین غوارم او تانہ د عافیت

ہمیشوالے غوارم او پہ عافیت باندے (توفیق) د شکر غوارم او د خلقو نہ دیے
پروائی سوال کوم ستانہ. (کنز العمال)

د ایمان د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي
بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشَيِّتْ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ پہ ولاہرہ پہ اسلام سرہ زما حفاظت اوکړہ او پہ ناستہ ہم پہ اسلام سرہ
زما حفاظت اوکړہ او پہ ملاستہ ہم پہ اسلام سرہ زما حفاظت اوکړہ۔
و پہ ماباندے زما دشمن او حسد کوونکے مہ خوشحالوہ۔ اے اللہ حہ تانہ
بر ہغہ خیر غوارم چہ د ہغے خزانے ستا پہ لاس کنبے دی او د ہر شر نہ ستا
پنا غوارم چہ د ہغے خزانے ستا پہ لاس کنبے دی۔ (حاکم)

د شکر د توفیق ملاوید دعا

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔

ترجمہ: اے زما ربہ مالہ توفیق را کړے چہ حہ ستا د ہغہ نعمتونو شکر ادا کړم چہ تا پہ
ما او زما پہ مور او پلار کړی دی او دا چہ حہ ہغہ نیک عمل وکړم چہ تاتہ خو بن
وی او ما پہ خپل رحمت سرہ پہ خپلو نیکانو بندگانو کنبے شامل کړہ۔ (نمل: ۱۹)

د صبر او شکر دپاره دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شُكْرًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا
وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔

ترجمہ: اے اللہ ما صبرکوونکے او شکرکوونکے جوہ کرہ اے اللہ زما پہ سترگو
کبے ما وپوکے او د خلقو پہ سترگو کبے می لوئے جوہ کرہ۔ (حسن حسین)

پہ وخت کبے د برکت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَلَاحَ السَّاعَاتِ وَبَرَكَاتٍ فِي الْأَوْقَاتِ۔

ترجمہ: اے اللہ حہ تانہ د ساعتونو اصلاح او پہ وختونو کبے برکت غوارم۔

د ظاہر او باطن د اصلاح دپاره دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحًا۔

ترجمہ: اے اللہ زما باطن زما د ظاہر نہ غورہ کرے او زما ظاہر درست کرے۔

دنیک عملونو او د خو اخلاقو دپاره دعا

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا
إِلَّا أَنْتَ وَقَبِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئِ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ د خو اعمالو او خو اخلاقو طرف تہ زما رهنمائی اوکرہ خو اعمالو او اخلاقو
طرف تہ رهنمائی ستانہ سوا بل شوک نشی کولے او د بدو عملونو او بد اخلاقونہ ما
بچ اوساتہ، دبد اعمالو نو او بد و اخلاقونہ بچ کول ستانہ سوا بل شوک نشی کولے۔

(سنائی)

د اللہ دیرے د حصول او د گناہ او نافرمانی نہ دیج کیدو دعا

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ
وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا
مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسَاعِدِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا
وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ
عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا
مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا۔

ترجمہ اے اللہ خپلہ دومرہ یرہ (خوف) زمونبر مقدر جوہر کپے چہ ہفہ زمور او ستاد
نافرمانو پہ مینح کنبے رکاوٹ شی او خپل دومرہ اطاعت زمونبر نصیب کپے چہ
مونبر جنت تہ اورسوی او دومرہ یقین رانصیب کپے چہ مونبر تہ پرے د
دنیا مصیبتونہ اسان شی اللہ مونبر چہ خوہورے ژوندی یو مونبر لہ زمونبر پہ غورونو
او سترگو اوزرونو فائدہ راکرہ او زمونبر ئے وارث جوہر کپے او زمونبر بدلہ د ہفہ
چا نہ واخلہ چا چہ پہ مونبر ظلم کپے دے او دہفہ خلقو پہ خلاف زمونبر مدد
و کپے چہ مونبر سرہ دشمنی کوی او زمونبر مصیبت پہ دین کنبی مہ راولے او دنیا
زمونبر لوے مقصد مہ گر خوے او نہ ئے زمونبر د علم آخری مقصد گرھے او پہ
مونبر باندے ہفہ خوہ مہ مسلط کوہ چہ پہ مونبر رحم نہ کوی۔ (ترمذی)

مشقت، بد بختی نہ دیج کید و دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَ
شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ۔ (بخاری، مسلم، نسائی، دیلمی)

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ! بے شک خدہ مصیبت د مشقت نہ، دبد بختی د راتلو نہ، دبدے فیصلے نہ او (زما د مصیبت پہ وجہ) د دشمن د خوشحالہ کیدونہ ستا نہ پنا غوارم۔

د نیک اهل و عیال دپارہ دعا

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

ترجمہ: اے زونبر بہ! مونبر تہ دخپلو بیبیا نو او اولاد نہ دسترگو بخوالے راکرہ او مونبر د پرهیز گارو خلقو پیشویان جوڑ کرہ۔ (فرقان: ۷۴)

د قناعت او د برکت دپارہ دعا

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاحْلُفْ عَلَيَّ كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ۔

ترجمہ: اے اللہ تا چہ ماتہ خدہ راکری دی پہ ہغے باندے راتہ قناعت راکرہ او پہ ہغے کنبے رالہ برکت و اچوہ او خہ چہ راتہ نہ دی ملاو پہ ہغے کنبے رالہ ہم خیگرہ نصیب کرے۔ (ہام)

د اعضاؤ د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنِّي وَأَنْصُرْنِي عَلَى
مَنْ ظَلَمَنِي وَخُدَّ مِنْهُ بِئَارِي۔ (ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ ماتہ زما پہ غورونو او سترگو فائدہ راکرہ او دا زما وارث جوہر کپہ (یعنی چہ حہ پرے داسے کاروکرم چہ د مرگ نہ پس ہم جاری وی) او پہ ماہاندے د ظلم کوونکی خلاف زما مدد او کپہ او زما بدلہ تری واخلہ.

دمشکل کار د اسانی دعا

✽ **اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔**

ترجمہ: اے اللہ ہیخ یو کار اسان نہ دے سوا د ہفے نہ چہ تہ ئے اسان کپے او تہ چہ کلہ او غوارے مشکل کار اسانوںے۔ (ابن حبان)

د خہ انجام دعا

✽ **اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔**

ترجمہ: اے اللہ پہ ہرکار کنبے زمونہ انجام خہ کپے او مونہر د دنیا د رسوائی او د آخرت د عذاب نہ بیچ اوساتہ۔ (حاکم، احمد، ابن حبان)

د معافی دعا

✽ **اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔**

ترجمہ: اے اللہ بے شکہ تہ ڀیر زیات معافی کوونکے کریم ذات ئے او معافی خونبوسے ماتہ معافی او کپے۔ (ترمذی، نسائی)

د نیک کار د توفیق دعا

✽ **اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَمَّتِي وَهَوَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔**

ترجمہ: اے اللہ زما ہمت او خواہشات تہ ہفہ طرف تہ واروے چہ ستا محبوب وی او ستا خونبوسے وی۔

د گناہونو د مغفرت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

ترجمہ: اے اللہ بے شک ما پہ حآن ڀیر زیات ظلم کرے دے او ستا نہ سوا خوک ہم
گناہ معاف کولے نشی نو تہ پہ خپل خاص رحمت عا گناہ ہونہ معاف کرہ او پہ
ما رحم او کرہ بے شک ہم تہ ڀیر معاف کوونکی او ڀیر رحم کوونکی ئے۔
(بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

ترجمہ: اے زمونبر رہہ مونبر پہ حآن ظلم کرے دے او کہ تہ مونبر تہ بخنہ اونکرے او
رحم راباندے اونکرے نو یقینا مونبر بہ تاوانیان شو۔ (الاعراف: ۲۳)

د گناہونو د مغفرت او ثابت قدمی دپارہ دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْرَفَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ (آل عمران: ۱۳۹)

ترجمہ: اے زمونبر رہہ معاف کرہ مونبر تہ زمونبر گناہونہ او مونبر نہ چہ زمونبر پہ کار کنبی کوم زیاتے شوے
دے ہغہ راتہ ہم معاف کرہ او زمونبر قدمونہ مضبوط اوسانہ او د کافرانو خلاف زمونبر مدد او کرہ

دہر قسم گناہ د مغفرت دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْبُقْدُمُ وَأَنْتَ الْبُؤْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ زما مخکی اوورستواوپیٹ او خکارہ گناہونہ او ماچہ کوم زیاتے کرے
دے او ہغہ نور گناہونہ چہ تا تہ معلوم دی معاف کرہ ہم تہ مخکی کونکے او
روستو کوونکے تے ستانہ سوا ہیخ خوک د عبادت لائق نشتہ۔
(مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، دیلمی)

اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔

ترجمہ: حہ معافی غوارم د ہغہ اللہ نہ چہد ہغہ نہ سوا بل خوک معبود نشتہ ہمیشہ
ژوندے او تول مخلوق لرہ سنبھالوونکے دے او اے اللہ حہ تا تہ توبہ او باسم۔

دگناہونو د مغفرت او د کورا او درزق د برکت دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي۔

ترجمہ: اے اللہ زما گناہ معاف کرہ او زما پہ کور کبسی فراخی راولے او زما پہ رزق کبسی
برکت واچوے۔
(ترمذی، نسائی، دارمی)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي۔

ترجمہ: اے اللہ ماتہ بخنہ او کرہ او رحم راباندے او کرہ او ہدایت راتہ او کرہ او عافیت
را کرہ او رزق را کرہ۔
(مسلم)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
مِئِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَحَطِيئِي وَعَمْدِي۔ وَكُلُّ ذَلِكَ
عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِئِّي، أَنْتَ الْمُبْدِئُ وَأَنْتَ الْمَوْخِرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ترجمہ: اے اللہ معاف کرہ ماتہ زما خطاگانے او زما ددین متعلق زما جہالت او زیاتے
او ہغہ خہ چہ تا تہ زما نہ خہ معلوم دی۔ اے اللہ ماتہ ہغہ گناہونہ معاف کرہ
کہ بہ سنجیدگی سرہ مے کرے وی او کہ مزاق کنسے می مے کرے او کہ بہ قصد
م کرے وی اودا تو لے خطا گانے ما کرے دی اے اللہ معاف کرہ ماتہ ہغہ گناہونہ
ہم چی ما مخکی کرے او ہغہ ہم چہ کوم ما روستو کرے دی او ہغہ چہ ما پت
کرے دی او ہغہ چہ ما خکارہ کرے دی او ہغہ ہم چہ تا تہ زما نہ خہ معلوم
دی تہ مخکے کوونکے اوروستو کوونکے ئے او تہ بہ ہر خیز قادر ئے۔ (بخاری، مسلم)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

ترجمہ: اے زموں پر یہ مہ نسیہ مونی کہ مونی ہیر کرے وی یا خطا او کروا اے زموں پر یہ مہ ربدہ پہ مونی بانسے
درون بوج لکہ خنکہ چہ زموں پر نہ مخکی خلقو بانسے تا ایجودلے وو او پہ مونی بانسے داسے بوج مہ
ردے چہ دہغے داوچتولو طاقت مونی کنسی نہ وی او مونی تہ معافی او کرہ او مونی تہ بخنہ او کرہ او پہ مونی
رحم او کرہ تہ زموں پر کار ساز ئے بس مونی سرہ مدد او کرہ د کافر تو یہ مقابلہ کنسے۔ (البقرہ: ۲۸۶)

د عذاب قبر او د فتنو نه د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ
الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ-

ترجمہ اے اللہ حہ د عذاب د قبر نه ستا پناه غوارم او حہ د دجال د فتنے نه ستا پناه غوارم
او حہ د ژوند او د مرگ د فتنے نه ستا پناه غوارم اے اللہ د گناه او د قرض نه ستا پناه غوارم.
(بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی)

د سستی بزدلی د قرض او د فتنو نه د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ،
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ
فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقِي
الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-

ترجمہ: اے اللہ بے شک حہ ستا پناه غوارم د سستی نه، د بزدلی نه، د بڈھاوالی نه، د
قرض او د گناه نه، اے اللہ حہ پناه غوارم د عذاب د اور نه د قبر د فتنے نه، د قبر
عذاب نه او د مالدارئی د فتنے د شر نه او د فقر د فتنے د شر نه د جال د فتنے د
شر نه. اے اللہ زما گناهونه په واوړه په گلی سره اوینحہ او زما زړه د گناهونو نه

داسے صفا کرہ لکہ خنگہ چہ سپینہ جامہ د خیرو نہ صفا کولی شی او زما او د
گناہونو پہ مینح کنبے دومرہ لرے والے راولے لکہ خنگہ چہ تا پہ مشرق او
مغرب کنبے لرے والے راوستے دے۔ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ
الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَ
قَهْرِ الرِّجَالِ۔

ترجمہ: اے اللہ حہ د پریشانی او د غم نہ او د عاجزی او سستی نہ ستا پناہ غوارم او د
بزدلی او د بخل نہ ستا پناہ غوارم او د قرض او د خلقو د زور غلبے او ظلم نہ
ستا پناہ غوارم۔ (ابوداؤد)

د اللہ د غضب نہ د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ حہ پناہ غوارم ستا پہ رضا سرہ ستا د غصے نہ او ستا پہ معافی سرہ ستا
د عذاب نہ او پہ تا سرہ پنا غوارم ستا (دقہر او عذاب) نہ حہ ستا صفتونہ او
ثناء نشم شمارلے تہ ہم ہفہ شان ئے خنگہ چہ تا د حان تعریف کرے دے۔ (ابوداؤد)

د نعمت او دعافیت د زوال نہ د بچ کیدو دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ
نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ۔

ترجمہ: اے اللہ بے شکہ حہ ستا د نعمت د زوال او ستا دعافیت د لرے کیدو او ستا د ناگھانی عذاب او ستا د ہر قسم غضب نہ ستا پناہ غوارم۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی)

د گاونپی او داهل و عیال د شر نہ د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ وَمِنْ زَوْجِ تُشَيْبِنِي قَبْلَ
الْمَشِيْبِ وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا
وَمِنْ خَلِيلٍ مَّا كَرِهَ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرَعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً
دَفَنَهَا وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا۔ (سلسلة الاحاديث الصحيحية)

ترجمہ: اے اللہ حہ ستا پناہ غوارم د خراب گاونپی او د داسے خاوند (بئھے) نہ چہ د بڈھا والی نہ مخکی انسان بڈھا کپی او د داسے اولاد نہ چہ پہ ماباندے بوج وی او د داسے مال نہ چہ پہ ما عذاب وی او د چال باز دوست نہ چہ سترگے ئے ما وینی او زہر ئے زما جاسوسی کوی او کہ چرتہ زما خہ کارونہ وینی نو ہفہ پٹ کپی (یعنی تذکرہ ئی ہم نہ کوی) او کہ زما خہ بدی و وینی نو ہفہ خورہ کپی۔

د منافقت او د خرابو اخلاقونہ د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ
نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ۔

ترجمہ: اے اللہ بے شکہ حہ خپل مینخ کنبے د مخالفت، منافقت او د بدو اخلاقونہ ستا پناہ غوارم، اے اللہ حہ د ثلورو ٹھیزونونہ پناہ غوارم د داسے علم نہ چہ فائدہ نہ ورکوی

د داسے زہرہ نہ چہ نہ یریری د داسے نفس نہ چہ نہ مہیری او د داسے دعا نہ چہ
نہ اوریدے کیری نہ (قبلیری) (ابوداؤد)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَيْدْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ۔

ترجمہ: اے اللہ حہ د ہفہ عمل د شر نہ ستا پناہ غوارم چہ ما کرے دے او د ہفہ عمل

د شر نہ ہم چہ مانہ دے کرے۔ (مسلم)

د قرض او د دشمن د غلبے نہ د بیچ کیدو دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ العَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الأعدَاءِ۔

ترجمہ: اے اللہ بے شکہ حہ د قرض او د دشمن د غلبے نہ او (زما پہ مصیبت) د دشمن

د خوشحالہ کیدونہ ستا پناہ غوارم۔ (نسائی، حاکم، ابن حبان)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ

وَالأَذْوَاءِ۔

ترجمہ: اے اللہ بے شکہ حہ د بد اخلاق او بد د بدو عمل نو بدو خواہشات او بدو بیمار و نہ

ستا پناہ غوارم۔ (ترمذی، ابن حبان، حاکم)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيِّ وَأَعُوذُ بِكَ

مِنَ العَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ

عِنْدَ المَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ أَنْ أمُوتَ لَدَيْغًا۔

ترجمہ: اے اللہ بے شکہ حہ دیو مکان او ابادی درانریدونہ او د لو پر خائے نہ د راغریدونہ ستا پناہ غوارم

او پہ او بو کنبے د ہویدو او اور کنبے د سوزیدو او

دیر بدہاتوب نہ ستا پناه غوارم او د مرگ پہ وخت کنبے د شیطان د بد حواسہ کولو
 نہ ستا پناه غوارم او پہ میدان جہاد کنبے د تیختے (شا کولو) نہ ستا پناه غوارم
 او ستا پناه غوارم د دے نہ چہ چرتہ د مار لرم تک را کولو سرہ مہ نہ شم . (ابوداؤد، نسائی، حاکم)

د مختلف بد و اخلاقو او خطر نا کو بیمارونه د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْعَفْطَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّنْعَةِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمِّ وَالْبَكْمِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَسَيِّئِ
 الْأَسْقَامِ وَضَلَعِ الدِّينِ- (ابن حبان، حاکم، ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ حہ د زہ د سختی، غفلت، فقر و فاقہ، ذلت او محتاجی نہ ستا پناه
 غوارم. او حہ د فاقی، کفر، نافرمانی، بد بختی او منافقت او د ریاکاری نہ ستا
 پناه غوارم د او حہ کونہ والی، گونگوالی، برکی مرض، پاگل توب، او د بدن د دوریدونہ
 دیرے بیمارئی نہ او د قرض د بوج نہ ستا پناه غوارم.

د اللہ د غضب او د مخلوق د شر نہ د حفاظت دعا

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
 هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ-

ترجمہ: حہ د اللہ د پورہ (صفتو) کلماتو پہ ذریعہ پناه غوارم د اللہ د غضب او د ہغہ د
 عذاب نہ او د ہغہ د بندگانو د شر نہ او د شیطانانو د وسوسونہ او د دے نہ (پناه
 غوارم) چہ ماتہ دوی را حاضر شی. (ترمذی)

د کورنہ د وتلو دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ
أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔ (ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ! ستا پناہ غواہم د دے خبرے نہ چہ ۛ گمراہ شم یا ۛ گمراہ کرې شم
یا ۛ خویہ شم یا خویہ کرې شم یا ۛ ظلم او کرېم یا پہ ماباندے ظلم او کرې شی ۛ
جاہل جوړ شم یا جاہل جوړ کرې شم (د جاہلت معاملہ راسرہ او کرې شی)

د بد حالت نہ د پناہ دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ
السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ۔

ترجمہ: اے اللہ! ستا پنا غواہم د خرابے ورۛے نہ او دخرابے شپے نہ د بد وخت نہ او
د بد ملگری نہ او د بد گاونہی نہ د پاتے کیدو پہ ۛائے کبے۔ (طبرانی)

د تہجد دوخت دعا

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا
يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ
الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْفِقُ الْمُقْرُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ
الْمُسْكِينِ وَأَبْتَهَلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالِ الْمُدْنِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ
الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَقَاضَتْ لَكَ عِبْرَتُهُ
وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا
وَكَنْتُ لِي رَعُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْلِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ۔

ترجمہ: اے اللہ تہ عَما خیرہ اورے اوخہ چہ چرتہ یم او پہ کوم حالت کنبے یم تہ ہغہ
 وینی او عَما د ظاہر او باطن نہ خبر ئے تانہ عَما یو خیرہ ہم ہتہ نہ دہ او زہ پریشان
 یم محتاجہ یم فریادی یم پناہ غوختونکے یم یریدونکے یم د خیلو گناہونو
 اقرار کوم تانہ داسے سوال لکہ خنگہ چہ یو عاجز مسکین بندہ سوال کوی
 تاتہ زاری کوم لکہ خنگہ چہ یو گناہگار او ذلیل بندہ زاری کوی او تانہ سوال
 کوم لکہ خنگہ چہ یرید ونکے او آفت زدہ انسان سوال کوی او دہغہ بندہ
 غوندے دعا کوم چہ دہغہ خت تاتہ تیسٹ شوے وی او اوخکے ئی بہیری او تن
 بدن ئے تاتہ ذلیلہ او عاجزہ وی او ستا مخے تہ پوزہ پہ زمکہ راکاری اے اللہ ما
 پہ دے دعا غوختلو کنبے ناکام او نا مراد کوہ مہ او عَما پہ حق کنبے ڍیر
 مہربان او رحم کوونکے شہ اے دہغہ تپولو نہ بہتر او لوے ذاتہ! چہ دہغوی نہ
 غوختل کیری او اے بہتر ورکوونکی ذاتہ! (معارف الحدیث: ۱۸۹/۵)



د سحر او ما خام دعا گانے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (سحر او ماخام درے حل)

ترجمہ: د ہفہ اللہ پہ نوم چہ د ہفہ د نوم پہ وجہ د زمکے او آسمان ہیخ یو خیز نقصان نشی
رسولے او ہفہ اور یدونکے پوہہ ذات دے۔ (بخاری، ترمذی، ابوداؤد)

اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ۔ (سحر او ماخام اووہ حل)

ترجمہ: اے اللہ ما د دوزخ د اور نہ بیچ اوساتہ (ابوداؤد و ترمذی)

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ (سحر او ماخام درے حل)

ترجمہ: حہ د اللہ پہ رب منلو او د اسلام پہ دین منلو او محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ خیل نبی منلو باندے راضی یم۔ (ابوداؤد)

د سحر دعا

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا
الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ
وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ۔

ترجمہ: مونر صبا کرو او کائناتو (دنیا) ہم صبا کرو د اللہ دپارہ چہ رب العالمین دے اے اللہ حہ
تانه سوال کوم ددے ورخے د خیر ددے دفتح، او د نصرت، د نور او د برکت او د ہدایت
او حہ پہ تاسرہ پناہ غوارم ددے ورخے د شر نہ او ددے نہ د ورستو ورخو دشر نہ۔ (ابوداؤد)

د ما بنام دعا

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَتَحَهَا وَنَصَرَهَا وَنُورَهَا وَبَرَكَتَهَا وَهَدَاهَا وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: مونہر ما بنسا کرو او کائناتو ہم ما بنام کرو د الله رب العالمين دپاره اے الله خہ تانه سوال کوم ددے شپے د خیر او ددے دفتح او نصرت، ددے د نور او د برکت او د هدایت او خہ ستا پنا غوارم ددے د شر نہ او ددے نہ دورستو شپے د شر نہ.

د ہر قسم جادو نہ د حفاظت دعا

حضرت کعب الاحبار فرمائی چہ یو خو کلمات دی کہ مانہ لوستلے نو یهود و بہ نما نہ خر جوہر کرے وے. چا ترے تپوس او کرو چہ ہغہ کوم کلمات دی نو وئے وئیل.

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْئٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ
التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا
عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأ۔ (مقلوۃ، مظاہر حق جدید)

ترجمہ: خہ د لوے او عظیم اللہ پہ مخ (ذات) سرہ پناہ غوارم چہ د ہغہ نہ لوے ہیخ یو خیز نشتہ او د ہغہ د پورہ (صفاتو) کلماتو پہ ذریعہ پناہ غوارم چہ د ہغہ نہ شوک خہ یا بد مخکبے اور یدے نشی او د الله تعالیٰ د ہغہ بہترین نومونو پہ ذریعہ پناہ غوارم چہ ماتہ معلوم دی او کہ نہ دی معلوم د ہر ہغہ خیزد شر نہ چہ الله پیدا کرے دے او خور کرے دے.

کنبے او پہ خپلو حفاظتی پردو کنبے راولہ مونبر سرہ د خپل طرف نہ د خیر
معاملہ اوکړے اے د ټولو نہ زیات رحم کوونکیه اے د ټولو نہ زیات رحم
کوونکیه اے ده ټولو نہ زیات رحم کوونکیه!
يَا سَتَّارُ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ - يَا حَفِيظُ يَا عَلِيمُ يَا قَدِيرُ -

ترجمہ: اے پردہ ساتوونکی ذاتہ! پہ خپلے خائستہ پردہ پوشی سرہ زمونبر ہم پردہ پوشی
اوکړه اے حفاظت کونکیه اے پوهه ذاتہ اے قادره ذاتہ!

د سیدنا انس رضی دعا

شوک چه روزانه د سحر په وخت کنبے یوخل دا دعا لولی هغه ته به هیش خوک
په تکلیف ورکولو قادر نشی.

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ
مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ افْتَتَحْتُ وَبِاللَّهِ
خَتَمْتُ وَبِهِ أَمَنْتُ بِسْمِ اللَّهِ أَصْبَحْتُ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى
قَلْبِي وَنَفْسِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى عَقْلِي وَذَهْنِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي
بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مَا أَعْطَانِي رَبِّي بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِي بِسْمِ اللَّهِ الْمُعَافِي
بِسْمِ اللَّهِ الْوَاقِي بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّيِّدُ الْعَلِيمُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا
أَخَافُ وَأَحْذَرُ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ الَّذِي لَا يُعْطِيهِ
غَيْرُكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَّاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ وَمِنْ
 شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ قَضَاءٍ سُوِّءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ
 آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
 (إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْتَجِيرُ بِكَ وَأَحْتَجِبُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ وَأَحْتَرِسُ بِكَ مِنْ
 جَمِيعِ خَلْقِكَ وَكُلِّ مَا ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ وَأَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُمْ وَأَفْوِضُ
 أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيَّ فِي يَوْمِي هَذَا وَكَيْلَتِي هَذِهِ وَسَاعَتِي هَذِهِ
 وَشَهْرِي هَذَا - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 كُفُوًا أَحَدٌ ۝ وَعَنْ أَمَامِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ
 يَسِينِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِي مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ فَوْقِي مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ
 تَحْتِي مِثْلَ ذَلِكَ -

ترجمہ: د اللہ پہ نوم د اللہ پہ مدد د اللہ پہ نوم کوم چہ بہترین نوم دے (مدد غوارم) د ہفہ اللہ پہ
 نوم چہ د ہفہ د نوم سرہ ہیخ یو خیز پہ زمکہ آسمان کبے نقصان نشی رسولے. ہم د اللہ
 پہ نوم ما شروع او کرہ او ختم می کرہ ما پہ ہفہ ایمان راوے دے د اللہ پہ نوم
 ما سحر کرو او ہم پہ اللہ م بروسہ کرے دہ ہم د اللہ پہ نوم مدد غوارم د خیل زپہ
 نفس او عقل او ذہن بارہ کبے او د خیل اهل و عیال پہ بارہ کبے، د اللہ پہ
 نوم مدد غوارم پہ ہفہ خہ چہ ماتہ ئی را کرپی دی د اللہ پہ نوم چہ شفاء

ورکوؤنکے معافی کوؤنکے دے د ہغہ اللہ پہ نوم چہ دہغہ د نوم سرہ د زمکے
اسمان ہیخ خیز نقصان نشی رسولے او ہم ہغہ اوریدونکے پوہہ ذات دے ہم
ہغہ اللہ دے ہم ہغہ اللہ زمارب دے حہ دہغہ سرہ ہیخ خوک نہ شریکوم اللہ د
تولونہ لوئے دے اللہ د تولونہ لوئے دے اللہ د تولونہ لوئے دے اللہ د تولونہ
لوئے دے او اللہ دہغہ تولونہ ہم زیات عزتمند او عظمت اوبزرگی والا دے چا
نہ چہ حہ یریرم اے اللہ حہ ستا نہ ستا د خزانو سوال کوم چہ ستا نہ سوائے
خوک ہم نشی ورکولے ہغہ چاتہ عزت ملاو شو چہ خوک تا تہ نزدے شو ستا
تعریف او ثنا ڀیر لوئے او اوچت دی ستا نہ سوا خوک د عبادت لائق نشتہ اے
اللہ حہ ستا پناہ غوارم د خپل نفس د شر نہ او د ہر طاقتور د شر نہ او دہر
سرکش شیطان او دہر معاند ظالم د شر نہ او د بدے فیصلے د شر نہ او دہر
جاندار د شر نہ چہ ستاپہ قبضہ کبسی دی بے شک زما رب د خو فیصلو والا
دے او اللہ تہ د ہر خیز حفاظت کوؤنکے ئے بے شک زما مددگار ہغہ اللہ دے
چہ قرآن ئے نازل کرے دے۔

او ہغہ دنیکانو مدد کوی اے اللہ حہ ستا پناہ غوارم او دہر ہغہ خیز نہ ستا پردہ
کبسی راتل غوارم کوم چہ تا پیدا کپی دی او د تول مخلوق پہ مقابلہ کبسی ستا
حفاظت غوارم کوم چہ تا پیدا کپی او خوارہ کپی دی حہ د ہغہ تولونہ ستا
پہ حفاظت کبسی راحم او خپل کارونہ تاتہ حوالہ کوم او ستا مخے تہ پیش کوم
پہ دے ورخ او شپہ کبسی پہ دے ساعت او میاشت کبسی د اللہ پہ نوم چہ رحمان
او رحیم دے او وایہ چہ اللہ یو دے اللہ بے نیازہ دے نہ دہغہ اولاد شتہ او نہ
ہغہ د چا اولاد دے او نشتہ دہغہ خوک ہمسر۔ حُما د مخے نہ ہم دغہ شان، زما
د روستونہ ہم دغہ شان زما خی او گس طرف نہ ہم دغہ شان زما لاندے
باندے ہم دغہ شان (کنز العمال)

دشمن او د ظالم حکمران نہ د حفاظت دعا

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ۔

ترجمہ: اے اللہ د چا پہ ذریعہ چہ تہ غوارے ددے دشمنانو نہ عفا کفایت او کرے۔ (مسلم)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔

ترجمہ: اے اللہ مونرتا د دشمنانو پہ مقابلہ کنسے گر حُو (چہ دوی زمونبر نہ دفع کرے)

او مونبر د دوی د شر نہ ستا پناہ غوارو۔ (ابوداؤد)

يَا عَزِيزُ يَا حَبِيدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ اصْرِفْ عَنَّا شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

ترجمہ: اے غلبے والا اے تعریفونو والا اے د عزتمند عرش والا! د ہر سرکش عنادی
شر زمونبر نہ لرے کرے۔

دابو الدر داء دعا

(د ہر قسم حادثاتو نہ حفاظت دپارہ)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْكَرِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

ترجمہ: اے اللہ ہم تہ زما رب ئے ستا نہ سوا بل شوک معبود نشته ہم پہ تام بروسہ

کرے دے او تہ د عرش کریم مالک ئے خہ چہ اللہ غواری ہغہ کیری او خہ

چہ نہ غواری ہغہ نہ کیری او ٲول قوت او طاقت صرف د ہغہ اللہ دپارہ دے
چہ عظمت او بلندی والا دے ما تہ پتہ دہ چہ اللہ تعالیٰ پہ ہر خیز قدرت لری
او ہغہ ہر یو خیز پہ خپل علم کنبے راگیر کرے دے اللہ ستا پناہ غوارم د خپل
نفس دشر نہ او ہر جاندار دشر نہ چہ دہغے تندے ستا پہ لا س کنبے دے بے
شک زما د رب فیصلے درستے دی۔ (کنز العمال)

د حاجت دعا

د دودہ رکعت نفل صلوة حاجت نیت کولو نہ پس دا دعا اولولئی بیا د اللہ نہ
خپل حاجت او غواری

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ
وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا
هَمًّا إِلَّا قَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ: د اللہ نہ سوا بل ٲوک معبود نشته ہغہ رحیم او کریم دے اللہ پاک دے د
عرش عظیم مالک دے ٲول تعریفو نہ د اللہ رب العالمین دپارہ دی اے اللہ حہ
تانه دہغہ خیزونو سوال کوم چہ ہغہ ستا رحمت واجبوونکی دی او ستا ٲوخ
مغفرت غوارم او د نیکی کولو د طاقت سوال کوم او ماد ہرے گناہ نہ بیچ او ساتہ
زما ہیخ یو گناہ داسے مہ پریردہ چہ تا معاف کرے نہ وی او یو تکلیف داسے
مہ پریردہ چہ تالرے کرے نہ وی او یو حاجت چہ ستا پکنبے رضا وی داسے
مہ پریردہ چہ تا پورہ کرے نہ وی۔ (الترمذی۔ کتاب الصلوة)

د استخارے دعا

دوہ رکعاتہ نفل مونح نہ پس دے دا دعا اولوی.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَايِشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَايِشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

ترجمہ: اے اللہ ستا د علم پہ واسطے تانہ خیر غوارم او ستا د قدرت پہ واسطے ستا نہ

د خہ کار طاقت غوارم او ستا پہ لوسے فضل تانہ سوال کوم حکہ چہ تہ قدرت

لرے او ما کنبے قدرت نشته او تہ علم لرے او ماسرہ علم نشته (چہ دا معاملہ

زما پہ حق کنبے خہدہ کتہ نہ د دے علم تا تہ دے ماسرہ نشته) تہ پہ غیبو

پوہیری اے اللہ کہ تاتہ علم وی چہ دا معاملہ (پہ دے وخت د ہغہ معاملے تصور

اوکری چہ کوم دپارہ استخارہ کوئی) زما پہ حق کنبے بہتر وی زما د دین دپارہ

بہتر وی زما د معاش او دنیا پہ اعتبار بہتر وی او د انجام پہ اعتبار ہم بہتر وی نو دا

زما مقدر کرے او ماتہ ئے اسان کرے او ما دپارہ پکنبے برکت واچوے او کہ ستا

پہ علم کنبے وی چہ دا معاملہ زما پہ حق کنبے خرابہ وی زما د دین پہ حق کنبے

خہ نہ وی یا زما د معاش او دنیا پہ حق کنبے خہ نہ وی یا د انجام پہ اعتبار خہ نہ

وی نو تہ دا کار زما نہ واروے او ما ہم ددے کار نہ واروے او زما دپارہ خیر مقدر

کرہ چہ چرتہ ہم وی او بیا پرے ما خوشخالہ کرہ. (صحیح البخاری۔ کتاب الدعوات)

مختصر اسخارہ

کہ باقاعدہ د استخارے کو لو فرصت نہ وی یا تادی وی نو صرف دا دعا دے اولوی.

❁ **اللَّهُمَّ خَيْرِي وَاخْتَرِي۔ (ترمذی)**

ترجمہ: اے اللہ زما دپارہ صحیح لار خوبنہ کرے او زما دپارہ ہم تہ انتخاب او کرے۔

❁ **اللَّهُمَّ الْهَيْبَتِي وَرُشْدِي وَأَعِزِّمْنِي عَلَى رُشْدِ أَمْرِي وَأَعِدَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي۔ (احمد)**

ترجمہ: اے اللہ زما پہ زہرہ کنبے درستہ خبرہ واجوے او ماتہ زما دسم کار پوخ عزم راکرے او ما دنفس دشر نہ بیچ اوساتے۔

آمین یا رب العالمین



د دنیا و آخرت د بہترینی او د پیر قسمہ شرنہ
د حفاظت د پاره
داد عیہ ماثور و یوہ بہترینہ مجموعہ

منتخب

مسنون

دعا گانے

پینتو

انتخاب
مولانا مفتی محمد ایاز صاحب
رئیس الجامعہ تبلیغ القرآن یوسف آباد پشاور

یوسف آباد دلہ زاک روڈ پشاور پاکستان
فون: 0092-91-2245300

(رہنوی)

ناشر جامعہ تبلیغ القرآن